author — Abdul Hai Pir Ghulam Ahmad Hanfi
on request of Ghulam Mohd-i Handoo Narwari

ASL-94 — Shamsher-i-Brahna Bar Dushmani Hanifa شمشیر برهنه بر دشمن حنیفی
— 1324 H
— 20 pages ~~Kashmiri Poetry~~

ASL-95 Chopan Nama — Pahli name
Author — Poet — Mahmood Gami
1323H — 08 pages

ASL-96-97 (two vols.) Molvi — ~~Mohd Din~~ Mohmad
(1317H) (24 pages) Irshadul — Mudmeen (Mujtabai Press Delhi

ردّ وہابی

فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون

الحمد للہ والمنہ کہ دریں زمان
بکشمیری زبان رسالہ شریفہ
منیفہ المسمّی بہ

شمشیر برہنہ بر دشمنان ابی حنیفہ

از تالیف جناب ابو عبد الحی پیر غلام احمد صاحب

حسب فرمایش جناب
غلام محی الدین ہنڈو حنفی زوری
سلمہ اللہ تعالی

از مطبع خادم پنجاب واقع امرتسر کے طبع

شمشیر برہنہ بر دشمنان ابی حنیفہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ الذی جعلنا من امۃ حبیبہ نبی اخر الزمان علیہ وعلی
الہ وصحبہ الصلوۃ والسلام الاکملان ووفقنا بتقلید من وافق
رأیہ للحدیث والقران وھو التابعی الواقعی امام الائمۃ سراج الامۃ
ابو حنیفۃ النعمان علیہ الرحمۃ والرضوان وتوقی من ھبۃ بکثرۃ
مقلدیہ فی القری والبلدان اما بعد

احقر عباد اللہ الاحد ابو عبد الحی غلام احمد حنفی نوکدلی تجاوز اللہ عن ذنبہ الجلی والخفی
چھو بخدمت اہل سنت وجماعت التماس کران پزہ اللہ تعالی ان ائس یت قتس
تامت یہ خطۂ کشمیر جنت نظیر لامذہبن ہندہ شرہ نش رچھومت تہ محفوظ تھاومت
لیکن کنہہ مدتھ گوٚیتہ نہ ہتِن یم دجال تہ دجالہ سند بیرو ظاہر چھِن اگرچہ ظاہر
پاٹھہ چھہ دعوی دِوان عمل بالحدیث کرنک لیکن یلہ یہندِس حالس کن بغور وچھو
تلہ سپنو بانی معلوم یم چھہ راہِ راستہ نِش ڈلمت تہ گمراہی ہندس کریس اندر غرق
گیمت نکیازِ یم چھہ ائمۃ مجتہدین تہ سلفِ صالحین پٹھہ طعن زنی تہ بی ادبی کران
لیکن اتھ یہندِس افراط وتفریط وتہ لنس اندر گھٹِرِ نہ دِل آزردہ سپنن نکیازِ یمن
دجالن ہنز خبر چھہ دِژمٕژ برونٹھی حضرت آنحضرتن صلی اللہ علیہ وسلم امہ جماعتک ظاہر سپدن

نوٹ ہرت مسلمانس چھو لازم یہ رسالہ وچھن تہ پرن تا اینکہ بنو خبردار سپدن لامذہبن ہندہ باطل اعتقادہ نش ہرگاہ کنہ جایہ آسہ عبارتس
قصور گومت یا غلطی تتہ گھڑہ عیب پوشی کرن تہ مہ پتھہ رحم کرن نکیازِ مہ کریہ کام خالصاً للہ تعالی اگرچہ بو آسن نہ یتہ کامہ لائق ۱۲

گو رسول کریم سنز پیشں گوئی تہ معجزہ ظاہر سپدن چنانچہ در حدیث شریف چھو آمت عن

ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی

اٰخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم

ولا اٰباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم رواہ مسلم یعنی آخرِ زمانس

اندر اَن فریب کرن وال تہ اپزیار تھہ کُن تمی حدیث یمنہ چھو تھہ بوزمت نہ تہہند و مالو نہ

بڈ بوپین بچاو و تھہ پنن پان تمن نش تم پانس نش یمہ خیطرہ زہ یتھنہ تو ہیھ گمراہ کرہ نو تہ

فسادس اندر تراوہ نوہ یعنی دریردہ عمل بالحدیث ونت تہ عالمن ہنز صورت لاگت ڈالنو تہ

گمراہ کرہ نو چنانچہ یہی طریق چھہ ونکنس لا مذہبن ہنز ظاہر یاتٹ چھہ عمل بالحدیث کرنگ دعوی

دوان دراصل چھہ احادیثن انکار کران ایمہ مجتہدین تہ سلف صالحین پٹھ چھہ سب وشتم و نان

حدیث دوم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی اٰخر الزمان قوم احداث الاسنان

سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریۃ یقرؤن القراٰن لا یجاوز حناجرہم

یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیۃ الحدیث متفق علیہ یعنی فرماو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نیرہ آخرِ زمانس اندر اک قوم ماہ کم سن تہ کم عقل زبان پٹھ آسک قال قال رسول اللہ

یعنی بغیر حدیث کرن نہ کلام قرآن پرن لیکن حلقہ بن وسک نہ یعنی تہہند ن دلن منز آسنہ ایمان

دلکہ خلوصہ سیت کرن نہ قرآنس پٹھ عمل دینہ نش نیرن تتھی یات ینتھہ یاتٹ نیر چھو نیران

کمانہ نش حدیث سوم وقال علیہ السلام السنتہم احلی من السکر وقلوبہم

قلوب الذیاب یعنی زبان تہنزہ آسن شکرہ خوتہ زیادہ شیرین دل تہہند آسن سخت تہ

بی رحم رامہ ہون ہند ہو یعنی بظاہر آسن نرمی سان تہ شیرینی سان کلام کران دل تہند

آسن بی رحمتہ بی انصاف رامہ ہون ہند یاتٹ حدیث چہارم یہ چھو معجزہ آنحضرت صلے

اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ سپن ظاہر نہہ ۱۲۰۰ شتہ ورہ گہرِ نت در صحیح بخاری چھو حضرت عبد اللہ

ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کران زہ فرماو رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک

لنا فی شامنا اللّٰهم بارك لنا فی یمننا یعنی ای اللہ برکت کر سانس ملکِ شام مس ای اللہ
برکت کر در ملکِ یمن ثمہ ساعتہ آس تنہ کنہ لوک ملکِ نجدک تمو کر عرض وفی نجدنا
یعنی ملکِ نجد خیطرہ نہ فرماو ودعای برکت لیکن بیہ کر دعای برکت آنحضرتن شہر شام خیطرہ
شہر یمنہ خیطرہ بیہ کر اصرار نجدکو لوکو دعای برکتہ خیطرہ تمو فرماو ترسیمہ لتہ هناك الزلازل
والفتن وبها يطلع قرن الشيطان یعنی ملکِ نجد سی اندر وتھن زلزلتہ فتنہ بیہ نیرہ
نتہ امتِ شیطان چنانچہ بیہ مخبر صادقن صلی اللہ علیہ وسلم فرماو برابر سپن ظاہر پیس درا و
لامذہبن ہند پیشوا محمد بن عبد الوہاب در ملکِ نجد در سنہ ۱۲۱۱ھ یلہ ام بدبختن وچھ انتظام
سلطنت روم چھوبر ہم نوی اک مذہبہ کرن ظاہر تہ دراو جنگ کرتہ یمی نب حرمین شریفین
ساری مقابر شہدا نہ مزاراتِ اولیاء اللہ کرن منہدم تمام مسلمانن کرن حکم کفر یم مذہبس
تابع آسہ دین یمن سیت گھرہ جہاد کرن یہندس مالس گھرہ لوٹ کرن تہ یمن گھرہ قتل کرن
ستاہ ظلم کرن مسلمانن پٹھ خصوصا در حرمین شریفین زادہما اللہ شرفا و تکریما تا اینکہ پتہ تاو
فتح کر سلطان سنز لشکر یمن بدبختن پٹھ در سنہ ۱۲۳۳ھ چنانچہ علامہ شامی چھو در رد المحتار
شرح در مختار مطبوعہ مصر مجلد سوم صفحہ ۳۰۹ در باب البغاۃ لکھان زہ کما وقع فی زماننا فی
اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون
مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون
فاستباحوا بذلك قتل اهل السنة وعلمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب
بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلث وثلثين ومائتين والف انتهى
غرض چھوی زہ لامذہبن ہنز جماعت چھہ امسی محمد بن عبد الوہابن پیرو نتہ تابع لیس چھو لازم
پتہ وفتس اندر یمن لامذہبن ہند کنہہ مسایل تہ اعتقاد سنز اون تتہ اندر چھہ زہ وجہ

وجہ اول چھو یہ زہ یوزنت لامذہبن ہنز جماعت درایہ دہ سنہ ۱۲ بہ شت یہ جماعت چھہ از
اہل بدعت اہل سنت چھنہ لیس چھو چھتہ یمن جرح تہ قدح کرن تہ رد کرن یہندن مسایلن تہ اعتقادن

تا اینکہ یتھ خبر دار سپدن تم اہل سنت و جماعتٕ یم یہند و مسایلو نہ اعتقادو نش بےخبر چھہ اہل بدعت چھہ امی خیطر زہ یہند مسایل نہ اعتقاد چھہ مخالف قرآن نہ مخالف حدیث نہ مخالف مذاہب اربعہ یعنی امام اعظم سندس مذہبس نہ امام شافعی سندس نہ امام مالک سندس نہ امام احمد حنبل سندس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یم مسایل تہ اعتقاد یہندس مذہبس مخالف آسن تمی چھہ مخالف قرآن نہ مخالف حدیث تکیازہ اتفاق چھو تمام اہل سنت و جماعتن ہندیمن ژون امامن ہندس اجتہادس پیٹھ **وجہ دوم** چھو یہ زہ لا مذہبن ہند عادت چھو یہ زہ فقیران چھہ پرتھ جایہ یتہ موقع چھہ لبان تتہ چھہ لوکن ہندن دلن اندر وسوسہ تہ فساد تراوان مجتہد چھہ پانہ بنان بہ کینژاہ خیال باطل چھک وتھان نہ چھہ لوکن ونان ایمہ مذاہب اربعن چھہ طعن زنی نہ جرح و قدح کران در حدیث چھو امت قال علیہ الصلوة والسلام لعن آخر ہذہ الامۃ اولہا رواہ الترمذی [illegible] اکھ چیز ہیتھ لوک کرن برونٹھمن لعنت نہ طعن زنی نہ سب و شتم تعجب چھو بہ زہ یم برونٹھم علماء تہ فضلا نہ کملا نہ عرفا نہ صلحا چھہ تمن چھہ ونان تقلید کرہ نکہ سببہ مشرک نہ بدعتی دپان تم چھہ خلاف طریقہ سنت نبویہ علی صاحبہا الصلوة والتحیہ آسن متہ پننہ پانس چھہ زانان لا مذہب آسہٕ اہل حدیث تہ موحد تہ پز زیار مومن نہ کامل مسلمان سبحان اللہ بیت سلف کجا و من اندر خلف خراب کجا * ببین تفاوت رہ از کجا است تا بکجا * خصوصاً یم یتھ وقتس اندر اہل حدیث آسنک دعوی چھہ دوان اہل سنت و جماعتن چھہ دپان تمہ چھو مخالف قرآن تہ مخالف حدیث ائمہ مجتہدین چھہ مسایل فقہین پیٹھ بیجا الزام دوان یمن ہندیہ ونن چھو سارٕوی محض نفسانیت نہ جہالت تکیازہ کنھہ ادنی مسلمان تہ چھو نہ مخالفت قرآن نہ مخالفت حدیث کرن جان زانان احکام خدا نہ احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھہ بدل جان قبول کران نہ مانان بربلہ ادنی جاہل مسلمانہ سند حال گو ون کیاہ چھو تہند حال یم بڈ بڈ عالم نہ فقیہ نہ مجتہد چھہ تم کیا کرن مخالفت قرآن تہ مخالفت حدیث جانتہ و کلا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ

اصل چھو یہ زِ یم لامذہب چھہ سِتھاہ نادان تہٕ کم فہم تِمی چھہ مجتہدینن ہندِس فقاہتس پٮ۪ٹھ طعن دِنی کران ہرگاہ یمن فہم آسہِ ہٮ۪کہِ و نہٕ تہٕ علم فقہ کیاہ چھو بر خلافِ قرآن واحادیث صحیحہ تکیازِ کانْہہ مسئلہ مفتیٰ بہٖ چھونہٕ حدیثس تہٕ قرآنس برخلاف بلکہ یمہ فقہ چہ کتابہ چھہ معتبر تمہ چھہ ساری از احادیث صحیحہ استنباط آمژٕ کرنہٕ لیکن ہرگاہ یمن اتھ بوزنہٕ ییہ نہٕ سو گٔژھن قصور چھو بقول استاد بیت گر نہ بیند بروز شپرہ چشم چشمۂ آفتاب را چہ گناہ ؎ پس سپُن معلوم یمو علمِ فقہس انکار کرٕ تمی چھہ منکر احادیث چنانچہ اکثر عالمو حدیث چن کتابن پٮ۪ٹھ فقہ چن کتابن ہند اطلاق فرماوان چھو مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ در مسوّیٰ شرح موطا کِس دیباچس اندر اِنَّ عِلْمَ الْفِقْهِ اَشْرَفُ الْعُلُوْمِ وَاَنْفَعُهَا وَاَوْسَعُهَا وَكِتَابُ الْمُوَطَّا اَصَحُّ كُتُبِ الْفِقْهِ وَاَشْهَرُهَا وَاَقْدَمُهَا وَاَجْمَعُهَا وَقَدِ اتَّفَقَ السَّوَادُ الْاَعْظَمُ مِنَ الْمِلَّةِ الْمَرْحُوْمَةِ عَلَی [illegible] بِہا ... الاجتہاد ... شرح مُشکلاتہ ومُعضلاتہ وَالْاِهْتِمَامِ بِاسْتِنْبَاطِ مَعَانِيْهِ وَتَشْيِيْدِ مَبَانِيْهِ الخ حالانکہ سنن موطا امام مالک چھو منجملہ کتب صحاح ستہ اتھہ آو ونہٕ اصح کتب الفقہ اگر وِنہٕ تہٕ کرن تہٕ تصدیق علم فقہس روزن نہٕ پٮ۪ٹ بدو ونہٕ تِنش پٔتھ گواہی حدیثس انکار کرنتہٕ سنتس رد کرن نعوذ باللہ منہا

در بیان واجب بودن متابعت یکی از ائمہ مذاہب اربعہ رضی اللہ عنہم

وُچھو یم بدعتی چھہ ونان تقلید کرن چھو شرک تہٕ بدعت مٔتہٕ چھو تقلید گژھ تراوُن تکیازِ فرماو آنحضرتن ص تابع گژھ روزن تہٕ پیروی گژھ کرن میانِس سنتس تہٕ میانِس کلامس تقلید گژھ نہٕ بیہ کانسہ شخص سند پانس پٮ۪ٹھ قبول کرُن یہ چھہ دلیل لامذہبن ہنز لامذہبی پٮ۪ٹھ حال آنکہ یم ڈل یت مسلس اندر تہٕ راہ سنت نبوی لبگنہٕ تکیازہ حکم کر حضرتِ آنحضرتن ص پانس پتہٕ تقلید کرنک صحابن ہند خصوصاً ابو بکر صدیق سند تہٕ عمر فاروق سند فرماوک مٔہ پتہٕ گژھہ یمنی دون صاحبن ہنز پیروی کرن عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر رض رواہ الترمذی یمس حدیثس اندر چھو عن

حذيفة اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من
بعدي ابي بكر و عمر واهتدوا بهدي عمار و تمسكوا بعهد ابن ام عبد يعني
اندر ڇهو ابو بکر صديق سندن ته حضرت فاروق سندن ته عمار بن ياسر سندن ته ام عبد سندن يعني عبد الله
ابن مسعود سندن رضي الله عنهم اقتدا نه پيروي ته تقليد ڪرڻ ڪ حڪم نام بنام وارد بلڪه خلفاء راشدين
هندس تقليد ڪرڻس پٽ ڇهو پهريم حديث وارد فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين ملا علي قاري ڇهو يمه حديث ڪس شرحس منز لکهان زه وليس المراد انتفاء الخلافة
عن غيرهم حتى ينافي قوله عليه الصلوة والسلام يكون في امتي اثنا عشر خليفة بل
المراد تصويب رأيهم وتفخيم امرهم بل هم ومن على سيرتهم من ائمة الاسلام المجتهدين
في الاحكام فانهم خلفاء الرسول عليه الصلوة والسلام في احياء الحق وارشاد
الخلق واعلاء الدين [illegible] سند ثابت [illegible] تقليد [illegible]
خلفاء راشدين هند پس ڇهو امام اعظم سند تابعي آسن ثابت چنانچه حافظ جلال الدين سيوطين
ڇهو هندس تابعي آسنس پٽ اگ رساله تاليف ڪرمت بيه ڇهو حافظ ابن حجر عسقلاني لکهان زه
ادرك الامام ابو حنيفة جماعة من الصحابة لانه ولد بالكوفة سنة ٨٠ ثمانين
من الهجرة وبها يومئذ من الصحابة عبد الله ابن ابي اوفى فانه مات بعد ذلك بالاتفاق
وبالبصرة يومئذ انس ابن مالك ومات سنة ٩٠ تسعين انتهى پس روده کنه
امام اعظم سندس تابعي آسنس پٽ البته تم ڇهه در طبقه تابعين داخل خصوصا تهندس تبع تابعين
آسنس پٽ ڇهه تمام عالمک لوک اتفاق ڪرت قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يمه حديث شريف سيت سپن ثابت زه زمانه
خير القرونس منز ڇهه تابعين نه تبع تابعين داخل تبع تابعين هند وقت رود زياده ڈيو هتو ورهو ختنه
باقي چنانچه امام شافعي رحمه الله تعالى ته ڇهو تبع تابعينو اندره در سنه ١٥٠ اک هت ته پنچاه سپن پيدا در سنه ٢٠٠
زه هت ثور گر گ انتقال حضرت امام اعظم رحمه الله عليه تم سپن تولد در سنه ٨٠ ثيت انتقال فرماو گ

در ١٥ سنه اک هت ته پاتشاه بهرحال امام اعظم سندر زمانه ڇهو خير القرون اَتِ وقتس اندر کري هو اجتهاد و استنباط مسايل کري کي از قرآن واحاديث صحيحه سڀ آسه بد و لوکو کري ٻهند تقليد پانس ٿِيٽ قبول کيم گنز ري کي پين امام نه پيشوا غرض ڇور مذهب سين برپا يعني حنفي و شافعي و مالکي و حنبلي ساروي مسلمانو کري ٻهند تقليد پانس ٿِيٽ بموجب قانون شرعي نه موافق فرمان نبوي صلي الله عليه وسلم قبول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن مسلمانو زان يمين ڇون مذهبن هند تقليد کران رٿ ائي پرور دگار سن نش ته ڇهو توي کرو ره بد نه سا سه بد علما نه فقهانه محدثين نه مفسرين نه صلحا نه عرفا نه اوليا الله آئي يٽ وقتس تان ٻهندوي تقليد کران پيه گهٽ ڇهه آفتاب ختنه روشن در زمانه خير القرون آوس تقليد شخصي وغيره شخصي دو شوي جاري کالنيه اگين ڇهو نه مجال انکار کرنگ صحابن هندس وقتس اندر نه تابعين هندس وقتس اندر نه تبع تابعين هندس وقتس اندر وِن نه کالنيه تقليد شخصي ڇهو حرام يا شرک يا بدعت کِنه پاٽ وهن يمک فرض آسن نه واجب آسن ثابت سپن از کتاب و از سنت اهل حق هُکِن نه اَت رد کرت البته اگر کِنه جاهل بد عقيده نه بد دين وِنه تسندس وُوره لن ڇهو نه اعتبار غرض ڇهو يه زه ڇون مذهبن هنز حقانيت ڇهه باجماع امت ثابت چنانچه در حديث ڇهو آمت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار رواه ابن ماجه من حديث انس مراد ڇهو سواد اعظم اندره جماعت کثيره يعني پيٽ اکثر مسلمانن هند اتفاق آسه چنانچه ملا علي قاري ڇهو در شرح مشکوة لکهان السواد الاعظم يعبر به عن الجماعة الكثيرة والمراد ما عليه اكثر المسلمين وهذا في اصول الاعتقاد كاركان الاسلام واما الفروع كبطلان الوضوء بالمس مثلا فلا حاجة فيه الى الاجماع بل يجوز اتباع كل واحد من المجتهدين كالائمة الاربعة وما وقع من الخلاف بين الماتريدية والاشعرية في مسائل فهي ترجع الى الفروع في الحقيقة فانها ظنيات فلم تكن من الاعتقاديات المبنية على اليقينيات بل قال بعض المحققين

الخلف بينهما في الكل لفظي وقيل المراد جمع المسلمين الذين هم في طاعة الامام
وهو السلطان الاعظم وقيل الجماعة من اهل الايمان وقيل الكتاب والسنة لكثرة نفعهما
يعني سڀني نحوين ثابت ٿيو ته اک جماعت کثيره ته جم غفير کي تابع آهن مجتهد من سندس تقليد سان ته جيکو
حق نه صحيح گمراهي ته ضلالت جيکو نه اگر کنهن لامذهب وٽ به اجماع امت جيکو نه امر حق نه صحيح بلکه جيکو
بدعت نه ضلالت نه کو تهند باوجود دعواي عمل بالحديث آهيت پيش حديث شريف انکار کرن
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يجمع امتي على
ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار رواه الترمذي ملا علي قاري
جيکو هن حديث کي شرح ۾ لکيو آهن قال المظهر في الحديث دليل على حقية اجماع الامة
وقال ابن ملك المراد امة الاجابة اي لا يجتمعون على ضلالة غير الكفر ولذا ذهب
بعضهم الى ان اجتماع الامة على الكفر ممكن بل واقع الا انها لا تبقى بعد الكفر امة
له والمنفي اجتماع امة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة وانما حمل الامة على
الاجابة لما ورد ان الساعة لا تقوم الا على الكفار فالحديث يدل على ان اجتماع
المسلمين حق وقال الابهري قوله على ضلالة اي على خطا وقيل على كفر ومعصية
ويد الله كناية عن النصرة والغلبة او الحفظ والرحمة او معناه احسانه وتوفيقه
لاستنباط الاحكام والاجماع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
واصحابه من الاعتقاد والعمل على الجماعة اي المجتمعين على الدين يحفظهم الله
من الضلالة والخطا او التوفيق لموافقة اجماع هذه الامة ومن شذ اي انفرد
عن الجماعة فيما اعتقادا او قول او فعل لم يكونوا عليه شذ في النار اي انفرد فيها ومعناه
انفرد اصحابه الذين هم اهل الجنة والقي في النار پس هين ثابت ٿيو ته آهن مقلد سواد اعظم
جيکو حضرت سائين جماعت جيکو نصرت الهي نه غلبه ديني شامل آهي جماعت کي تعريف جيکو کرن
پانهنجي خفتالي قال الله تعالى فان حزب الله هم الغلبون ٻين جاءِ فرماوان الا ان

حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ يمه اجماع ٻي دليل ڇهه بنص قرآن ثابت هر گاه کما نهه لا مذهبيات نکا
گره اهل اسلام منهندا اجماع انش سپنه ٻرون نسند حقه ڇهو بخت وعيد چنانچه فرماوان ڇهو حضرت
حق جل ذکره وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا
يعني پس اکه خلاف طريقه مومنين يکيه حو نهاؤن اس نته ضلالته چه وته پٽ ٻيه ثراون دوزخس
اندر سه ڇهه شاه مجهه جاي پس سيٽن يمه آيه اندره صاف ظاهري زه ڇهونه اسه لوکن نجات اخروي
بدون تقليد طريقه مومنين ته بغير اتباع سلف صالحين ٻيين جايه ڇهو الله تعالى فرماوان
فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ صاحب تفسير بيضاوي ڇهو يمه آيه کس تفسيرس
اندر فرماوان وَفِي الْاٰيَةِ دَلَالَةٌ عَلٰى وُجُوْبِ الْمُرَاجَعَةِ اِلَى الْعُلَمَاءِ فِيْمَا لَا يُعْلَمُ الخ
يمه آيه سيت سيٽن ثابت زه جاهل سنه گهره عالمس مسئله پرثهن ته عمل کرن پس ڇهونه غير مجتهدس
مجتهده سنده تقليد کرنه وراي کنهه چاره چنانچه در شرح جمع الجوامع ڇهو لکهمت يجب على
عَلَى الْعَامِّيِّ وَغَيْرِهٖ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ مَرْتَبَةَ الْاِجْتِهَادِ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَذَاهِبِ
الْمُجْتَهِدِيْنَ امام الحرمين جويني ڇهو در برهان لکهان اَجْمَعَ الْمُحَقِّقُوْنَ عَلٰى اَنَّ الْعَوَامَّ
لَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَعْمَلُوْا بِمَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ بَلْ عَلَيْهِمْ اَنْ يَتَّبِعُوْا مَذَاهِبَ الْاَئِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ
الَّذِيْنَ ذَكَرُوْا اَوْضَاعَ الْمَسَائِلِ وَاَوْضَحُوْا طَرِيْقَ النَّظَرِ يعني محققن سنه اتفاق ڇهو کنهه
پٽ زه عام لوکن هند گهرثه صحابن هندس مذهبس پٽ عمل کرن بلکه ڇهو عام لوکن واجب ته
منته ائمه اربعه مجتهدين هنز پيروي کرن يمو پرنٽ قسمک مسايل ديني ته دقايق اسلام ننزاوک
علامه ابن الهمام ڇهو در فتح القدير لکهان اِنْ عُقِدَ الْاِجْمَاعُ عَلٰى عَدَمِ الْعَمَلِ بِالْمَذَاهِبِ
الْمُخَالِفَةِ لِلْاَئِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ عالم حقاني امام شعراني ڇهو در ميزان کبري لکهان وَكَانَ سَيِّدِيْ
عَلِيٌّ الْخَوَّاصُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا سَاَلَهٗ اِنْسَانٌ عَنِ التَّقْلِيْدِ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ اَلْاٰنَ
هُوَ وَاجِبٌ اَمْ لَا يَقُوْلُ لَهٗ يَجِبُ عَلَيْكَ التَّقْلِيْدُ مَا دُمْتَ لَمْ تَصِلْ اِلٰى شُهُوْدِ عَيْنِ
الشَّرِيْعَةِ الْاُوْلٰى يعني يله کنهه شخص سا آلن امامس شيخ علي خواص رحمه الله سوال آسو کرن

آیا یت و فتش اندر چھا تقلید شخصی واجب کنہ نہ تم آیس جواب دوان یت خان نہ ژہ بدرجہ
اجتہاد وانک ژہ پٹ چھو تقلید شخصی منشہ نہ واجب علامہ ابن حجر مکی چھو در فتح المبین
فی شرح اربعین فرماوان اَمَّا فِی زَمَانِنَا فَقَالَ اَئِمَّتُنَا لَا یَجُوْزُ تَقْلِیْدُ غَیْرِ الْاَئِمَّۃِ
الْاَرْبَعَۃِ اَبِیْ حَنِیْفَۃَ وَالشَّافِعِیِّ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلٍ پس پیہ معلوم یت و فتش
اندر چھو نہ بغیر تقلید کنہ چارہ یم تقلید تراو سوڈل راہ راستچہ وتہ نش ہر گاہ اعتماد ائی نہ
وچ مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی یُس سرگرہ علماء غیر مقلدین چھو کیاہ چھو ونان لا مذہبن
ہندس حقس اندر در کتاب اشاعۃ السنۃ نمبر ۲ جلد ۱۱ (جو لوگ قرآن و حدیث سے خبر نہ رکہتی
ہون اور علوم عربیہ ادبیہ سے جو خادم قرآن و حدیث ہین محض نا آشنا ہون صرف اردو
فارسی تراجم پڑھکر یا لوگون سے سُنکر یا ٹوٹی پھوٹی عربی جانکر مجتہد اور ہر بات مین تارک
التقلید بن بیٹھتے ہین انکے حق مین ترک تقلید سے بجز ضلالت کے کسی ثمرے کی توقع نہین
ہو سکتی ہمکو پچیس برس کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بی علمی کے سات مجتہد
مطلق اور بالکل تارک تقلید بن جاتے ہین وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہین انمین سے بعض
تو عیسائی ہو جاتے ہین اور بعض لامذہب جو کسی دین و مذہب کے پابند نہین رہتے اور فسق
و فجور اور احکام شریعت سے خروج تو اس آزادی کا ادنی نتیجہ ہے ان فاسقون مین بعض
تو کھلم کھلا جمعہ جماعت نماز روزہ چھوڈ بیٹھتے ہین اور سود و شراب سے پرہیز نہین کرتے
اور بعض جو کسی مصلحت دنیاوی کے سبب فسق ظاہری سے بچتے ہن تو وہ فسق مخفی مین سرگرم
رہتے ہین اور ناجایز طور پر عورتون کو نکاح مین پھسا لیتے ہین اور ناجایز حیلون سے
لوگون کے اور خدا کے مال و حقوق دبا رکھتے ہین کفر و ارتداد و فسق کے اسباب دنیا مین
اور بی بکثرت موجود ہین مگر دین دارون کے بی دین ہو جانے کے لئے بی علمی کے ساتھ ترک
تقلید بڑا بھاری سبب ہے گروہ اہل حدیث مین جو بی علم یا کم علم ہو کر ترک تقلید کے مدعی
ہین وہ ان نتایج سے ڈرین انتہی کلامہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی در حجۃ اللہ البالغہ

فرماوان اِنَّ هٰذِهِ المَذَاهِبَ الاَربَعَةَ المُدَوَّنَةَ المُحَرَّرَةَ قَدِ اجتَمَعَتِ الاُمَّةُ وَمَن يُعتَدُّ بِهٖ مِنهَا عَلٰى جَوَازِ تَقلِيدِهَا اِلٰى يَومِنَا هٰذَا وَفِى ذٰلِكَ مِنَ المَصَالِحِ مَا لَا يَخفٰى لَا سِيَّمَا فِى هٰذِهِ الاَيَّامِ الَّتِى قَصُرَتِ الهِمَمُ جِدًّا وَاُشرِبَتِ النُّفُوسُ الهَوٰى وَاُعجِبَ كُلُّ ذِى رَاىٍ بِرَايِهٖ پس ڈسین یمه عبارته سیت حقانیت مذاهب اربعه باجماع امت ثابت وُن پس لامذهبه مذهبس انکار کره تسندیں قولس چھو نه اعتبار لازم چھو اهل سنت و جماعتن بیث قتن اندر ژور و مذاهبو اندره اکس مذهبس تابع روزن نکیازه تقلید قبول کرنس اندر چھه سٹھا فواید کثیره چنانچه فرماوان چھو شاه ولی الله در عقد الجید صفحه ۳۶ اِعلَم اَنَّ فِى الاَخذِ بِهٰذِهِ المَذَاهِبِ الاَربَعَةِ مَصلَحَةً عَظِيمَةً وَفِى الاِعرَاضِ عَنهَا كُلِّهَا مَفسَدَةً كَبِيرَةً یمه عبارته سیت سپد معلوم تقلید شخصی کرن چھو در دین اسلام سٹھا بڈ مصلحت نه خوبی یه تقلید ترا ونه سیت چھه سٹھا خرابی غرض چھو بزه یتھی پاٹھ چھه سٹھا آیات کلام الله نه احادیث صحیحه نه اقوال علماء امت محمدیه براثبات تقلید مذاهب اربعه لیکن مه کریتن کمسی ٹ اکتفا مطابق قول استاد

اگر در خانه کس است یک حرف بس است ۵ وگر صد باب حکمت پیش نادان ؛ بخوانی آیدش بازیچه در گوش

وبیان مسائل لامذهبان وچھو بونه ون نم مسائل لامذهبن هندیم مخالف احادیث صحیحه جمهور علماء امت محمدیه علٰی صاحبها الصلوٰة والتحیه چھه تا اینکه یث اهل سنت وجماعت بت رون یمن سیت اختلاط کرنه نش **مسئله اول** اگر آب آسه قلتین ختنه کم یا نمه ختنه ژر هرگاه نمه اندره سوٗر یا هون تریش چھیه نغث پیه تتّ اندر نیرٗ ناپاکی یمه سیت نه نتهه البس رنگ یا بوی یا مزه ڈله سو آب چھو پاک چنانچه مولوی صدیق حسن قنوجی چھو ترک بطریقه محمدیه یث مهر چھه کرمژ مولوی نذیر حسین در صفحه ۶ چھو فرماوان آب چھو پانه نه پاک بیین نه چھو پاک کران کڈه نه ات البس یمو دویو صفتو نش کنه چیز مگر سه ناپاکی یمه سبب تغیر سپینه ات البس ترٗ بو چیزو اندره اکس چیزس یا ڈلس رنگ نته مزه نته بوی برابر چھو کم امن آب با ژر یعنی دیو قلتینو ختنه آستن کم یا ژر مستعمل آستن یا غیر مستعمل انتهی پس ڈسن علوم

ہرگاہ لاندہن بانس اندر آب آہستہ نمی اندرہ چپیہ ترلیش ہون یا سئور سو آب گو نہ ناپاک ٿئي مگر
ہرگاہ سہ باقی آبہ ہن چین یا کرن تمہ سیت طہارت نہ چھو درست نعوذ باللہ منہا ہرگاہ لاندہ ہین
ہندس کریس سئور یا ہون گھڑہ سو کریر گھٹہ نہ ناپاک وچھو پرچہ اہل حدیث جلد ۲ نمبر ۱۸ مگر
۱۸ اگست ۱۹۰۰ء خلاصہ تمیک چھوائی نہ آب چھونہ ناپاک گھران یتان نہ تٹ رنگ یا مزہ
یا بوی ڈلہ فقط **الاعتراض** یہ مسئلہ چھو خلاف احادیث صحیحہ تہ علماء جمہور امت محمدیہ
علے صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ **حدیث اول** اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهٖ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهٗ
فِي الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلٰثًا الحدیث متفق علیہ یعنی یلہ بیدار سپنہ تمہ اندرہ نندرہ نش کنہہ
شخصاہ تمسند گھٹہ نہ تتان بانس اندر اتھہ تراون یتان نہ تریہ لٹہ اتھہ چھلہ نکیا زہ معلوم
چھسنہ کت کت جایہ واتس اتھہ **حدیث دوم** عن ابی ہریرۃ رضہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ متفق علیہ
یعنی یلہ کنہ وقتہ ہون چیہ ترلیش تہندہ بانہ اندرہ سو بانہ گھژ ستہ پھرہ چھلن **حدیث سوم**
اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ يَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ رواہ مسلم یعنی یلہ
ہون چیہ تہندہ بانہ اندرہ ترلیش سو آب گھژ تراون تہ بانہ گھژ ستہ پھرہ چھلن **حدیث چہارم**
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ زَنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ قَالَ فَاَنْزَلَ اِلَيْهِ رَجُلًا فَاَخْرَجَهٗ
ثُمَّ قَالَ اَنْزِحُوْا مَا فِيْهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ قَالَ لِلَّذِيْ فِي الْبِئْرِ ضَعْ دَلْوَكَ مِنْ قِبَلِ الْعَيْنِ
الَّتِيْ تَلِي الْبَيْتَ اَوِ الرُّكْنَ فَاِنَّهَا مِنَ الْجَنَّةِ رواہ ابن ابی شیبۃ یعنی اکھ زنگیا گوو چاہ
زمزم تہ مود پس وتھہ اک شخصا تت کریس اندر نکھارن سو زنگی پس فرماو حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما کریس گھڑہ سارے آب کڈن بیہ فرماون یمہ گھژ چشمہ طرفہ تھاون پس
حجر اسود کہ طرفہ چھو روایت کریت ابن ابی شیبن پس استاد چھو امام بخاری سند **حدیث پنجم**
ان حبشیا وقع فی زمزم فمات فامر ابن الزبیر ان ینزف ماء زمزم قال فجعل
الماء لا ینقطع قال فنظر فاذا ھو عین تنبع من قبل الحجر الاسود قال ابن الزبیر حسبکم رواہ

ابوبکر ابو ابی شیبہ یعنی تحقیق درچاہ زمزم گو اک حبشیا نہ موو لیس کُر ابن زُبیرَن حکم زِہ
کُر یرس گھڑِہ سارو ی آب کڈّن حضرت عطا چھو فرماوان سو آب وبراونہ تت کر یرس
پس وچھہ ابن زبیرن تتھ چشمہ جارے حجرِ اسود کِہ طرفہ فرماو ابن زبیرن لیس کانی چھو تھِہ
روایت کُریت ابن ابی شیبن حدیث ششم امر بنزح ماء عند وقوع زنجی وموتہ
فیہ رواہ الدار قطنی یعنی امر کُر حضرت ابن عباسن تہ ابن زُبیرن رضی اللہ عنہم آب کڈّن کُر
یمہ ساعتہ تت کر یرس اندر زنگی گوتہ موو حدیث ہفتم ان زنجیاً وقع فی بیر زمزم
فمات فیہا فامر ابن عباس وابن الزبیر ان اخرج وامر ان ینزح فقال غلبتہم عین
جاءت من الرکن فامر بہا فدست بالقباطی والمطارف حتی نزحوہا الصحابۃ
متوافرون من غیر نکیر ولم ینکر منہم احد رضی اللہ عنہم رواہ الطحاوی یعنی
تحقیق زنگیا اک گو کر یرس اندر تہ موو لیس کُر حکم حضرت ابن عباسن تہ حضرت ابن زبیرن
رضی اللہ عنہم کر یرس آب کڈنگ تو پتہ سپن تمہ اندرہ اک چشمہ ظاہر پس حجر اسود کہ طرفہ جارے
آس پس دت حکم دشوی صاحبو زہ سوراخ چشمہ گھڑ بند کرُن نہ آب گھڑ ساروی گڈن یہ
فتوی دتو یمو دیو صاحبو سارِنی صحابن روبرو پس کُرنہ کانسہ اک صحابن انکار روایت کرین
امام طحاوین حدیث ہشتم عن خالد بن سلمۃ ان علیاً سئل عمن بال فی بیر
قال ینزح رواہ ابن شیبۃ بتحقیق حضرت علی مرتضی اس آو سوال کرنہ ہرگاہ کر یرس اندر
ادرار گھڑ تت کیاہ حکم چھو تمو فرماو آب نیس کڈنہ پس سپن ہمو احادیثو سیت ثابت زِہ آب
چھو ناپاک گھڑان یلہ تت اندر کنہہ ناپاکی پیہ اگرچہ منہ ڈلتن تت رنگ یا مزہ یا بوی وُن
یس اکھاہ وِنہ آب چھو ناپاک گھڑان تم کرُیمن احادیث صحیحن انکار تہ سو ڈل از راہ رست نہ
صراط مستقیم نعوذ باللہ منہا مسئلہ دوم شیر خوار شُر سند ادرار چھو لامذہبن نش پاک
چنانچہ مولوی صدیق حسن خان قنوجی چھو در کتاب طریقہ محمدیہ صفحے لکھان انسانہ سند گوہ
ادرار چھو نجاست مطلق لیکن شیر خوار شُر سند ادرار چھو پاک پس سپن معلوم ہرگاہ لامذہبن

امانزی

هندس بانس یا پوشاکس یا بدنس لڳٽ سنه اڍاريه سو ڳڻرنه ناپاڪ هرگا؛ نماز تنهن یا اُٹ
پڙهن نه امامت ڪرڻ نه ڇهو درست نعوذ بالله منها **الاعتراض** يه مسئله ڇهو خلاف احاديث
صحيحه ته اجماع علماء امت ته حديث ڇهو امت عن عائشة قالت اُتِيَ رسول الله صلى الله
عليه وسلم بصبي يوضع فبال في حجره فدعا بماء فصبّه عليه رواه مسلم حضرت
عائشه صديقه رضي الله عنها ڇه روايت ڪران ته حضرت آنحضرتس نش آو اڪ لڳٽ شر دود
ڇوه ون آننه پس ڪرتم لڳٽ اڍرار تهنزه ڪڇه اندر پس منگه ناو حضرنو آب نه تراوڪ ٽت
(يعني ڇهلڪ) وعن عائشة ام المؤمنين انها قالت اُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم
بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه رواه البخاري بيه ڇه حضرت ام المؤمنين
عائشه صديقه رضي الله عنها روايت ڪران ته اننه آو حضرت آنحضرتس نش اڪ لڳٽ شر پر ڪرتم
اڍرار تمن هندس لباسس پٽ پس منگه ناوڪ آب نه تراوڪ ٽت پٽ (يعني ڇهلڪ) وعن عائشة
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فاتي
بصبي مرة فبال فقال صبّوا عليه الماء صبًّا بيه ڇه حضرت عائشه روايت ڪران ته اننه
آس يوان حضرت سندس خدمتس لڳٽ شر نه تم آس تمن دعا ڪران پس آو تمن نش اڪ لڳٽ
اننه نه تم ڪرا اڍرار پس فرماو حضرتو صلى الله عليه وسلم آب تراوڪ ٽت خوب پا ٹھن
وعن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يغسل الثوب من خمس من
البول والغائط والمني والدم والقيء رواه الدارقطني ذكره العيني في شرح الهداية والشيخ
ابن الهمام في فتح القدير في باب الانجاس وجيداه فذلك الحديث يدل على وجوب ازالة
النجاسة عن الشيء المتنجس بها بالمزيل سواء كان دما مسفوحا او بولا او غير ذلك
من النجاسات فهذه الاحاديث في غسل بول الصبي ونضحه والصب عليه موجودة
ولم يأت حديث في ان الرضيع بال على ثوبه صلى الله عليه وسلم فيصلي به من غير غسل
ونضح وصبّ فقد علم ان هذه الاحاديث متعينة في ازالة بول الصبي عن الثوب

المتنجسین به قال الامام النووی فی شرح مسلم فی باب حکم بول الطفل الرضیع واعلم
ان هذا الخلاف انما هو فی کیفیة تطهیر الشیٔ الذی بال علیه الصبی ولا خلاف
فی نجاسته وقد نقل بعض اصحابنا اجماع العلماء علی نجاسة بول الصبی انه لم یخالف
فیه الا داود الظاهری وقال الخطابی وغیره ولیس تجویز من جوز النضح فی
بول الصبی من اجل ان بوله لیس بنجس ولکنه من اجل التخفیف فی ازالته انتهی
بتھی پانچ چھو قریب ایک سو مسئلہ لامذہبین ہند کے مخالف احادیث صحیحہ و مذاہب ائمہ اربعہ
ان شاء اللہ تعالی بشرط حیات لکھ کر مفصل پانچ تتمہ میں مسایل ہم مخالف احادیث صحیحہ و مذاہب اربعہ
چھپیں رسالہ اندر بشرط آنکہ ہر گاہ اہل سنت وجماعت امداد کریں یہ خرید کر اس اندر تاکہ
سب ساری مسلمان واقف و خبردار ہو ویں لامذہبین ہند کے باطل اعتقاد سے وما علینا الا البلاغ
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک
انت الوهاب

تمت بتاریخ غرہ ۲۴ شہر ربیع الاول ۱۳۰۴ سنہ

شکر اللہ سعی مؤلفه حیث الف واظهر مفاسد المفسدین وامات الاذی عن طریق المسلمین فعلی اهل الکشمیر مقلدی حضرة سید الائمة والمحدثین امامنا الاعظم وهمامنا الاقدم ان یجتنبوا اهل الابتداع من اهل البدع والاهواء من المعتزلة والوهابیة ارباب الجور والظلم. حرره محمد نور الدین عفی عنه

اہالی اسلام خواص و عوام را واجب و لازم است کہ بر مذہب کرام حضرت امام ہمام سراج الملة امام اعظم رضی اللہ عنہ راسخ القدم ماندہ از جماعت نجدیین کہ دجال وقت اند اجتناب و احتراز کامل ہر نوع نمودہ باشند بر اقوال آنہا عمل نسازند
کتبہ الاثم محمد حسام عفی عنہ

فقیر مضامین این رسالہ را از زبان مؤلفش شنیدہ مطابق کتاب و سنت یافتم اہالی اسلام را واجب لازم است کہ از گروہ غیر مقلدین و نجدیین کہ معتقدات و معمولات آنہا مخالف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ است طوریکہ باید و شاید اجتناب و پرہیز نمودہ باشند و بر اقوال و افعال آنہا در امور و مسایل دین اسلام اعتماد نہ نمودہ باشند زیراکہ حسب ارشاد ہدایت بنیاد فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم این گروہ دجالان وقت اند و احتراز و اجتناب از آنہا واجب و لازم است و عمل بمذہب سید التابعین امام المحدثین یعنی حضرت امام اعظم کردن موجب سعادت دارین و استقامت باشند و این است عمل بالحدیث
بندہ اواہ محمد لعل اللہ عفی اللہ عنہ

تمامی اہالی اسلام متبعان حضرت فخر عالم سید انام علیہ وعلی آلہ واصحابہ الصلوۃ والسلام و پیروان مذہب حضرت امام ہمام اجل التابعین امامنا الاعظم را واجب و لازم است کہ پیوستہ بر مذہب مقدس حضرت امام موصوف ثابت القدم باشند و از اقوال و افعال غیر مقلدین احتراز و اجتناب نمایند ۱۲
احقر محمد سیف الدین عفی عنہ

فتوی در بیان وجوب تقلید

از مجموعهٔ فتاوای مولوی محمد عبد الحی صاحب لکھنوی رحمة اللہ علیہ جلد اول صفحہ ۲۰

استفتاء

سوال ثالث (۳) کسیکه انکار مذہب نماید و مذہب گرفتن را بد داند و اتباع کتب حدیث را دعوی کند حکمش چیست مبتدع است یا چہ

ہو المصوب اصحاب مذاہب چه ابو حنیفه و چه شافعی و چه مالک و چه احمد و چه غیر ایشان تدوین مذاہب و استخراج مسائل خلاف شرع نه ساختند ادلهٔ اربعه مستند ہر یک ہستند و سبب اختلاف فیما بین شان وقوع اختلاف در فہم معنی آیات و احادیث نه آنکه احدی را تعصبی با داده باشد یا آنکه تتبع ایشان را بدرجهٔ عدم گرده باشد ساختند و علما جمله ائمه مجتهد را از تقدیم قیاس مبرا ہستند و نسبت کنندهٔ این امر بطرف یکی از ایشان کاذب و مفتری است و آنچه که بعضی متعصبین حنفیه را اصحاب الرای می نویسند قول ایشان از پایهٔ اعتبار ساقط است و درینجا لطیفه بخیال می گذرد و آن اینکه الف لام که داخل بر رای است عہدیست و مراد ازان رای دقیق است پس فی الحقیقت حنفیه اصحاب الرای ہستند یعنی اصحاب الرای الدقیق حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی در مجمع موسس فی المعجم المفہرس اقرار این امر می سازند که الحنانکه در مذہب حنفی قواعد منضبط ہستند در مذہب ما نیستند پس حق جل شانه از زبان متعصبین وصف حسن حنفیه خارج کنانید لیکن اوشان مطلبش نه فہمیدند الحاصل مذاہب مدونه مخالف آیات و احادیث و اجماع و قیاس نیستند اصل ہر مسئله یکی ازین چار است شاه ولی اللہ دہلوی در انصاف فی بیان سبب الاختلاف می نویسند لما مہد و الفقه لم تکن مسئلة من المسائل التی تکلم فیہا من قبلہم والتی وقعت فی زمانہم الا وجدوا فیہا حدیثا مرفوعا متصلا او مرسلا او موقوفا صحیحا او ضعیفا او حسنا او اثرا من اثار الشیخین او سائر الخلفاء فیتسر اللہ لہم العمل بالسنة علی ہذا الوجه انتہی ہرگاه این امر مہد شد پس میگویم که منکر مذاہب اربعه و بد داشندهٔ آنہا اگر بدین سبب بد میداند که مذاہب اربعه موافق شرع ہستند آن شخص کافر خواہد شد لانه اہان الدین و اگر در اعتقاد خود می پندارد

که مذاهب اربعه خلاف شرع و نصوص هستند پس آنکس مخطی است اللهم اهدنا انصافاً بنظر تأمل باید فهمید که
اگر ائمه مجتهدین تحقیق مسائل و تدوین آنها چنانکه هست نمیکردند تمام عالم مظلم و گمراه بودی و کسی را اطلاع
بر حکم شرع حاصل نشدی چه بسیاری از احکام اینچنین هستند که از ظاهر نصوص مستنبط نمی شوند پس بد
دانستن این مذاهب احسان فراموشی است و اما دعوی اتباع کتب حدیث پس اگر مدعی امتیاز صحیح از حسن
و حسن از ضعیف و ناسخ از منسوخ میسازد و بر طبق محدثین سالفین بر شرح معانی آثار و احادیث و
آیات قدرت دارد و سوای آن بر جمله فنون ضروریه متعلقه کتب حدیث وغیره مهارتی دارد و
آن کس قابل مدح است و ظاهر است که وجود این چنین کس فی زماننا هذا مثل وجود عنقا است البته در مائه
ثامنه بسیار کسان موصوف بصفات مذکوره یافته شدند و بعد آن در مائه تاسعه علامه جلال الدین سیوطی
خاتمة الحفاظ شدند و بعد از ان در مائه عاشره هم بعضی علما مثل ملا علی قاری و شیخ عبد الحق دهلوی وغیره قدم
بقدم محدثین شدند مگر بمرتبه اوشان نرسیدند و بعد از ان تا الی الآن کسی یافته نشد که تمیز حدیث صحیح
از ضعیف کما حقه نماید فضلاً عن المهارة فیه الا ما شاء الله تعالی فی زماننا محدث آن کس را می شمارند
که صحاح ستة را درس دهد و توضیح مطالب حدیث عام فهم کرده دهد فانا لله و انا الیه راجعون صاحب
کشف الظنون از علامه تاج الدین سبکی نقل میسازد و اعلم ان قصاری نظر ابناء زماننا فی علم الحدیث
النظر فی مشارق الانوار فان ترفعت الی مصابیح البغوی ظنت انها تصل الی درجة المحدثین
و ما ذلک الا لجهلهم بالحدیث بل لو حفظهما احد عن ظهر قلب وضم الیهما من المتون مثلیهما
لم یکن محدثا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط و انما الذی یعده اهل الزمان بالغا الی النهایة و
ینادونه محدث المحدثین و بخاری العصر من اشتغل بجامع الاصول لابن الاثیر مع حفظ
علوم الحدیث لابن الصلاح او التقریب للنووی الا انه لیس فی شئ من رتبة المحدثین و انما
المحدث من عرف المسانید و العلل و اسماء الرجال و العالی و النازل و حفظ مع ذلک جملة مستکثرة
من المتون و سمع الکتب الستة و مسند احمد و سنن البیهقی و معجم الطبرانی وضم الی هذا القدر
الف جزء من اجزاء الحدیث فهذا اقل درجاته انتهی مقام غور است که هرگاه این حال زمانه وجود سبکی که
قبل از مائه عاشره است شده حال این زمانه چه تحریر شود محدثین زمانه هذا که خود را مجدد المذهب میدانند و مذاهب
حقه را باطل می شمارند گمراه کننده هستند زیرا که مثلاً اگر سند کدامی مسئله حنفیه یا شافعیه در صحاح ستة نیافتند
میگویند که امام ابوحنیفه یا شافعی درین باب خلاف حدیث کردند و نمی دانند که فن حدیث بر صحاح ستة منحصر نیست کتب
احادیث لا تعد و لا تحصی تصنیف شده اند فعدم السند فی الصحاح الستة لا یستلزم عدمه فی جمیع الکتب
والله اعلم بالصواب و عنده ام الکتاب

تقریر دلپذیر در اصلاح قوم از مہتمم کتاب ہٰذا غلام محی الدین حنفی نربوری ہندوارہ

یارب از دورِ گنہ شد تیرہ لوحِ دل مرا	کُن بنورِ معرفت روشن دلِ غافل مرا

افسوس کیاہ سُپُد مسلمانن افراطس تہ تفریطس منز چھہ گرفتار سپن مِت بعضیو چھہ بناوِمت بزرگ پنن معبود تہ حاجت روا یوت چھو تمن وعظیوان پیر نتہ نصیحت کرنہ تیوت چھہ تم گرہ نیوان بلکل چھوک توکل دِلہِ نِش چھلِت ژِہنمُت خدا چھوک بیکار زانمُت کامہِ وال تہ حاجت روا چھک بزرگ بناوِمت حال آنکہ ساروی پیغمبرو نہ ولیو کراتھ کِتھہ رد بلکہ کر تموتہِ یہی منادی زہ ساری حاجت تہ ساری مطلب منگوتس نِش یُس چھو آسمانن تہ زمینن ہُندمالِک یُس چھو پرت چیزس پیٹھ قدرتہ وال یُسند علم چھو پرت چیزس سیت شامِل تہ میلت یُسندِ بیتھر نہ سیت چھو ولین ولایت تہ بزرگن بزرگی بنان تسنزہ کامہ اندر چھو نہ کانسِہ اکس دخل تہ شِرکت نہ چھولس کانہہ مشیر نہ کانہہ وزیر + انتہی باقی آئندہ

بت رود یاک فرقہ تمی سیدن حشمہ بد دور ہ ت اکھا چھہ ہُنز اعتقاد کُ .. و ادن

غرض چھو یہ زہ تم چھہ تیوت تفریطس منز بوڈیمتِ تہ لوزنت چھو بدلس لگر زہ اثان تہ نیر نہ کانسِہ رافضہ سنزہ زِوہ یہ یمن بد بخت تہ بی شرمن ہنزہ زوہ نیران چھو تم ورش چھہِ کھٹِت پانژھن صحابن پیٹھ سب ونان یم چھہ تن پاٹھ بازرن تہ مجلسن اندر آسان عالمن تہ مجتہدن ائمہ مذاہبِ اربعن تہ سلفِ صالحن ہنز بی ادبی تہ نقطہ چینی کران بی شرمن تہ بدبختن کہُند چھو ڈر زِہ تم کیا کھوژہن نکیا زہ قانونن چھک ازادی وژمژ یہ خوش گرِک تہ تہِ کرن یہ رای وُتھک تہ تہِ ونن سبحان اللہ اگر یم تہندِن حالاتن کُن بغور وچھن ادہ گژہ ہن نہ نقطہ چینی ہرگاہ یمن خبر آسِہ زہ تہنز کوشش چھہ یہی زِہ اس چھہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ؐ پران ورنہ چھو نہ معلوم کُت بُت خالس اندر آسہن رام رام کران تِم آس تمی لوک زہ اسلامس تہ اسلام کُن لوکن پیٹھ کرک پنُن جان تہ پنُن عزت فدا دیتی زانگ مقدم دنیا اس پیٹھ بیدینن تہ فلسفین تہ خدا تہ مانونِن ہاوک تمی دلیلہ زہ اقرار کرہ ناوِک خدا تہ ربِ معبود آسنس پیٹھ تہندی وعظا سیت آس کم کم شدید کافِر مسلمان تہ متقی سپدان تہنز مدح خوانی چھہ یوان منبرن تہ خانقاہن تہ مجلسن اندر بیان کرنہ اگر فکر دیو نہ

غور کرو برونٹھمن ہند آثار نہ نشانہ وُچھو آدہ کیا نگو بوزن تم گم آس نہ اُس کم جیچھ
بقول استاد چہ نسبت خاک را با عالم پاک گژھ تہہ سفر کرن چھ ہمت چھنہ تہہ کیاہ فقیر ہیو
ملک پت ملکہ تہ شہرہ پت شہرہ آدہ کیا وچھہ ہو برونٹھمن ہند آثار تہ نشانہ زہ کم کم مساجد
تہ کم کم خانقاہ چھہ تموبرونٹھمہ مِیو مسلمانو یمن تھہ چھو دپان بدعتی تہ بےخبر آدہ ہر گرو تھو نہ
بلکہ سپد ہو معلوم زہ اسی چھہ بےخبر تہ بدعتی ہر گاہ تورو انک نظر کرتہ نظر کم کم عجائبات تہ
کم کم عمارات خصوصاً خانقاہ و مساجدات کمن کمن جاین چھہ تمو برونٹھو مسلمانو بناو مت
یمن ہتہ بدور چھہ گیتہ و نہ چھہ لبلامت یہی چھہ بڈ شہادت تہندس مسلمان تہ متقی
آسنس پتہ چنانچہ و نہ تہ چھہ یمن مقامات متبرکن اندر عبادات و ریاضات یوان کرنہ
پس شوبا آسہ ناخلفن ہند یمن مردان خداین پتھ ٹھک تہ طعن زنی کرن یمو یمہ
جایہ تھاوہ سانہ باپت تیار کرِت سانن شوب گیہ یہی زہ اس چھہ یہان تہندس
کلامس یچہ کڈنہ وچھتو پننہ لس ہتس پتھ زہ سان ہمت کھر چھہ کوتاہ کر تلاش زہ
[illegible] گیاہ گو پت [illegible] تہند
تلاش لیس دینہ باپت تھہ کران چھو گویا یہ چھو تہہ گندن دین چھو تماشا ہو بناو مت
خدا چھم شاہد آت وَن تہ دینداری تہ تقوی چھو بیہ کنہہ یہ تھہ کران تہ بیہ
تھہ و نان نہ چھو بیہ کنہہ نتہ چھہ آمہ ختہ تھز تھز تہ بالا کامہ اگر یمن کامن واتہو نہ
اصلاح کرہو آدہ کیا گیا و جوانمرد نہ راہ خدا ورسول چھانڈہ ون اگر نہ تہندہ اتھہ
یِیہ نہ نو بہ کرتو پننہ ین محلہ خانن اصلاح نتہ گو زبان ہندہ جمع خرچہ سیت بیاک بناون
مشرک تہ بدعتی بینن پان موحد تہ اہل حدیث زانن وچھو ہندوستانس کن نتہ کیو
عالمو تہ فاضلو کم بہانہ تہ کمہ کمہ چالہ کرک فساد متھاو نہ خیطرہ ملک پت ملکہ تہ شہرہ
پت شہرہ کرک انجمنہ قایم ساری فرقہ مقلد تہ غیر مقلد سمت تفرقہ کاسنک مشورہ کران
کمہ سیت ژلہ قومس تفرقہ تہ کمہ سیت گھژن مسلمان بای بای الحمد للہ تہنز کوشش چھہ
روز بروز کامیاب سپدان تہ قومس چھہ جہالت ژلان + باقی آیندہ

اگر یت نظر یرس منز کنہ قصور آسہ گومت چشم پوشی کرت
گژھہ میہ پتھ رحم کرن
والسلام

انشاءاللہ لوٹے

باہتمام پیر حبیب اللہ صاحب امام
مسجد میان محمد رمضی پہلوان امرتسر